B

Dealing Assistant

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, PESHAWAR

APPLICATION FORM FOR DUPLICATE CERTIFICATE

(TO BE FILLED IN BY THE CANDIDATE IN HIS OWN HANDWRITING)

Passport size photo

Attested by the Headmaster/Principal Female applicant exempted

Secretary

3 Name of application (in block letters) 4 Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the above particulars given in this application form are correct. Note: The signing authority should make sure that the spelling of Name, Father Name and Date of Birth tally with the School/College record. In case of any mistake the concerned Head Master / Principal will be held responsible. Office Seal Office Seal (المن المنافذ المنافز ا	
4 Father's Name (in block letters)	
4 Father's Name (in block letters)	۸_ پان
4. Father's Name (in block letters)	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmaster / Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the above particulars given in this application form are correct. Note: The signing authority should make sure that the spelling of Name, Father Name and Date of Birth tally with the School/College record. In case of any mistake the concerned Head Master / Principal will be held responsible. Office Seal	·" -`
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmaster / Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the above particulars given in this application form are correct. Note: The signing authority should make sure that the spelling of Name, Father Name and Date of Birth tally with the School/College record. In case of any mistake the concerned Head Master / Principal will be held responsible. Office Seal	ه مع
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No	0/
4 Father's Name (in block letters) 5 Date of birth (in case of SSC (Matric) 6 Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7 Institution OR District from which appeared 8 Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmisters / Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the above particulars given in this application form are correct. Note: The signing authority should make sure that the spelling of Name, Father Name and Date of Birth tally with the School/College record. In case of any mistake the concerned Head Master / Principal will be held responsible. Principal's Signature Office Seal Concerned Head Master / Principal will be held responsible.	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No	ء دادارس
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmaster / Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the above particulars given in this application form are correct. Note: The signing authority should make sure that the spelling of Name, Father Name and Date of Birth tally with the School/College record. In case of any mistake the concerned Head Master / Principal will be held responsible. Principal's	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No Date Rs I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address CERTIFICATE (To be signed by the Headmaster / Headmistress / Principal) I hereby certify on the basis of School / Collage record that the	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) 7. Institution OR District from which appeared 8. Bank Receipt No Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application Full Address	
4. Father's Name (in block letters)	
Father's Name (in block letters) Date of birth (in case of SSC (Matric) Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) Institution OR District from which appeared Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application	
Father's Name (in block letters) Date of birth (in case of SSC (Matric) Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) Institution OR District from which appeared Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct. Signature of application	
Father's Name (in block letters) Date of birth (in case of SSC (Matric) Registration No. (In case of HSSC (Intermediate) Institution OR District from which appeared Bank Receipt No. Date Rs. I solemnly declare that the facts mentioned in the application form are correct.	
4 Father's Name (in block letters)	
4. Father's Name (in block letters)	
4. Father's Name (in block letters)	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric) 6. Registration No. (In case of HSSC (Intermediate)	
4. Father's Name (in block letters) 5. Date of birth (in case of SSC (Matric)	
4. Father's Name (in block letters)	
3. Name of application (in block letters)	
2. Roll NoAnnual/SupplyYear	
1. Certificate required SSC (Matric) HSSC (Intermediate)	

Asstt: Secretary

Supdt: